



## سوال

(842) عورت کا خاوند کو اپنے حقوق سے بری کر کے طلاق مانگنا

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

بیوی شوہر سے مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے طلاق دے دو، مگر وہ شرط کرتا ہے کہ یہ تبھی ہوگا جب تو مجھے میرے ذمے اپنے حقوق سے بری الذمہ قرار دے۔ چنانچہ عورت نے اسے ذمہ حقوق سے بری کر دیا۔ تو کیا عورت کا یہ فعل درست ہے خواہ اس کے والد نے اسے اجازت نہ دی ہو؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

اگر عورت عقل مند اور اپنے بھلے برے کو بخوبی سمجھتی ہے تو اس کے لیے ماں باپ سے اجازت لینا شرط نہیں ہے۔ لہذا اگر اس نے اپنے شوہر کو بری قرار دیا ہو تو صحیح اور ثابت ہوگا خواہ عورت کے ماں باپ انکاری بھی ہوں۔ لیکن اگر عورت نادان ہو مثلاً چھوٹی عمر کی ہو یا ویسے بھی اپنے معاملات سے کما حقہ آگاہ نہ ہو تو اس کے لیے (اپنے اولیاء) مثلاً والد بھائی کی اجازت کے بغیر اپنے شوہر کو بری کرنا صحیح نہیں ہوگا، بشرطیکہ اس امر میں ان میاں بیوی دونوں کی مصلحت ہو، مثلاً ان دونوں کو ایک دوسرے سے راحت دینا مطلوب ہو۔

هذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب

## احکام و مسائل، خواتین کا انسائیکلو پیڈیا

صفحہ نمبر 593

محدث فتویٰ